

# والاوری

اے۔ ایس 2009/10

## باہمی جوابدہی کا تعلیمی معاہدہ

آرٹیکل 5 ڈی پی آر 249/1998

تبدیل شدہ ڈی پی آر 235/2007

سکول کا تعلیمی ماحول جہاں ہر طالب علم کو معاشرتی بنیادوں اور مثبت طریقہ کار کے تحت تعلیم حاصل کرنے اور نہ صرف تعلیم بلکہ تنقیدی جائزہ کا موقع فراہم کیا جاتا ہے سکول ایسی جگہ ہے جہاں ہر مکالمہ تحقیق سماجی تجربہ معلومات برائے جمہوری روایات افرادی ترقی مساوی شناخت مگر مختلف کردار کیساتھ کا موقع فراہم کیا جاتا ہے دیگر تعلیمی حقوق اور ترقی کا موقع ملتا ہے۔

ریاستی پیشہ وارانہ ادارہ برائے صنعت " جی والاوری " کارپی طلبہ و طالبات کے لئے طے شدہ دستور کے مطابق مندرجہ ذیل باہمی جوابدہی کا تعلیم سے متعلقہ معاہدہ پیش کرتا ہے۔

### اساتذہ کی ذمہ داریاں۔

- سکول میں تعاون ہم آہنگی اور شفاف ماحول مہیا کرنا۔
- ہر طالب علم کیساتھ ذمہ دارانہ ماحول اور جوابدہی کا عمل پیدا کرنا تا کہ تعلیم کے لیے فعال بن سکے۔
- ملکی ڈسپلن کو اجاگر کرنا ، منصوبہ جات بنانا اور طریقے وضع کرنا جن سے معلومات کا حصول ہو اور حصول حق ادا ہو سکے۔
- وضاحت کا طریقہ کار اور پروگراموں کے حوالے سے طریقہ کار کا تعین جن سے طلباء آگاہ ہیں۔
- خاندان کی فعالیت تا کہ ملاقات کریں جس میں تعلیم کے حصول اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔
- خاندان کو گاہے بگاہے طالب علم کے رویہ سے پیش آنے والی مشکلات اور کارکردگی سے مناسب طریقہ سے آگاہ کرنا۔

### خاندان کی ذمہ داریاں۔

- اساتذہ کے ساتھ مکالمہ انکی سیکھانے کی آزادی اور بصیرت کا خیال رکھتے ہوئے۔
- بچے کے سکول وقت پر پہنچنے کا اہتمام، سکول کا وقت ختم ہونے سے قبل نہ نکلنے کی تلقین، غیر حاضری نہ کرنا، بیماری کی مدت 5 دن سے زیادہ ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کا جاری کردہ سرٹیفیکٹ دیں۔
- سکول ڈائری کا تواتر سے جائزہ، جو کہ سکول اور خاندان کے درمیان معلومات کا ذریعہ ہے۔
- اساتذہ سے ملاقات کے ذریعے معلوم کرنا کہ طالب علم سکول کے ضابطوں پر عمل کرتا ہے، سکول کے امور میں حصہ لیتا ہے اور سکول کا کام کرتا ہے۔
- اجلاس میں باقاعدگی سے حاضر ہونا۔

## طلباء و طالبات کی ذمہ داریاں۔

- ذمہ داریوں اور فرائض کا علم رکھتے ہوئے دیگر افراد کی عزت، جگہ اور آلات کا احتیاط سے استعمال۔
- سکول وقت پر پہنچنا، اسباق کے وقفہ کے دوران رابرداریوں میں زیادہ دورانیہ کے لیے نہ رکنا۔
- موبائل فون اور الیکٹرونکس کا اسباق کے دوران استعمال سے پرہیز۔
- سکول کے تمام عملہ اور سکول فیلوز کے لئے عزت اور مثبت سوچ رکھنا۔
- سیکھانے کے عمل کے دوران بھرپور توجہ کا مظاہرہ، مثبت سوچ اور ذہنی موجودگی تاکہ اسباق کو علم و تجربہ کے حوالہ سے مفید بنایا جا سکے۔
- سکول میں رکنے کے دوران اور کام کے دوران، ماحول کے مطابق آداب اور زبان کا استعمال۔
- سکول کی عمارت، اشیاء اور دیگر افراد کو نقصان نہ پہنچانے کی کوشش۔

والدین اور طالب علم مثبت سوچ کیساتھ ان تمام امور پر عمل پیرا ہوں جو سکول کی سماجی زندگی، فرائض و مقاصد کے حصول میں بنیادی حیثیت کے حامل ہیں۔

سکول ناظم تعلیم کی موجودگی میں والدین اور طلباء و طالبات موجودہ باہمی جوابدہی کے تعلیمی معاہدہ جو کہ ادارہ کے قوانین و ضابطوں پر مبنی ہے پر دستخط کرتے ہیں۔

طالب علم

والدین

ناظم تعلیم

-----

-----

-----